

## **METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED**

### **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the 67<sup>th</sup> Annual General Meetings of the Company will be held on Thursday October 27, 2022 at 10:00 a.m. at the Registered Head office factory premises on plot No. HE-1/2, adjacent Nagaria Textile Mill, Landhi Industrial Area, Karachi to transact the following business:

#### **ORDINARY BUSINESS:**

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on May 31, 2022.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2022 with the Audit report, Directors' Report and review report by the chairman thereon;
3. To appoint auditor for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the chair.

Karachi: 05-10-2022

By Order of the Board  
Abul Mojahid  
Company Secretary

#### **NOTES**

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 21-10-2022 to 27-10-2022 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote may appoint any other member as his /her proxy.
3. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 of January 26, 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan.

#### **A. For Attending the Meeting:**

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his /her identity by showing his /her original National Identity Card NIC or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entity the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

#### **B. For Appointing Proxy:**

- i. In case of individuals the account holder or sub account holder and or the person whose securities are in group account and their registration details are upload as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement
  - ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form
  - iii. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - iv. The proxy shall produce his original NIC passport at the time of the meeting
  - v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to notify any change in their addresses.

Don't fall before you are pushed  
- English Proverb

www.pakobserver.net f pakobserver pakobserver Pakistan observer pakobserver

# Pakistan OBSERVER

Eyes & Ears of Pakistan

Widely read and trusted Daily

Dar, Raana named in match  
officials for ICC Men's T20  
WC Page 11

Farmers end protest after Govt  
assures of meeting demands  
Page 08

Founded by: ZAHID MALIK (Shura-i-Millat)

- Karachi

Simultaneously published from  
Lahore | Islamabad | Peshawar

Vol. XVII, Issue 179 Regd. No. 111

WEDNESDAY  
Rabi ul Awwal 08, 1444 | October 05, 2022

CIP describes

## METROPOLITAN STEEL MSC CORPORATION LTD.

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 67th Annual General Meetings of the Company will be held on Thursday October 27, 2022 at 10:00 a.m. at the Registered Head office factory premises on plot No. HE-1/2, adjacent Nugaria Textile Mill, Landhi Industrial Area, Karachi to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on May 31, 2022.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2022 with the Audit report, Directors' Report and review report by the chairman thereon.
3. To appoint auditor for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the chair.

Karachi: 05-10-2022

By Order of the Board  
Abul Mojahid  
Company Secretary

#### NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 21-10-2022 to 27-10-2022 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote may appoint any other member as his /her proxy.
3. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 of January 26, 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan.

#### A. For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his /her identity by showing his /her original National Identity Card NIC or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entity the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

#### B. For Appointing Proxy:

- i. In case of individuals the account holder or sub account holder and or the person whose securities are in group account and their registration details are upload as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement
- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form
- iii. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his original NIC passport at the time of the meeting
- v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to notify any change in their addresses.

روزنامہ کراچی

میں عام محمود

جلد نمبر 11

بدھ 8 ربیع الاول 1444ھ 15 اکتوبر 2022ء

نمبر 315

تلفون نمبر 021-111-7777، 021-35114030، 021-35114030

صفحہ 12 قیمت 20 روپے

357 ریسٹروڈسٹر

**METROPOLITAN STEEL CORPORATION LTD.**

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ کئینی کا 67 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء کو صبح 10:00 بجے کئینی کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس ٹیکسٹائل میں واقع پلاٹ نمبر 1/2، ملحقہ گریڈنگ سٹائل مل، لاٹھی انڈسٹریل ایریا کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انہما دی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

- (1) کئینی کا غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 31 مئی 2022ء کی کارروائی کی توثیق۔
- (2) 30 جون، 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کئینی کے آؤٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظور۔
- (3) 30 جون، 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آؤٹریڈ کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین

بھیم پھرو  
الہا لہاد  
کئینی سکرٹری

کراچی۔ 5 اکتوبر 2022ء

نوٹس:

- 1۔ کئینی کی حصص منتقلی کی سب 21-10-2022 تا 27-10-2022 بشمول دونوں ایام (بند ہیں گی)
- 2۔ اجلاس پڑا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے پروف کی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3۔ تاہم پروف کی تقرری کے اسٹامپ اور دستخط شدہ دستاویزات اجلاس پڑا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کئینی کے رجسٹریٹر کو موصول ہوجانی چاہئے۔
- 4۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری، 2000ء کو جاری کردہ مگر کے مطابق درج ذیل ہدایات پمٹل کرنا ہوگا۔

A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

- (i)۔ فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا فرد کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کر سکیں گے۔
- (ii)۔ کارپوریٹ انٹائیٹی کی صورت میں، پورٹ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی امپلدار کے دستخطی نمونہ کے ساتھ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی (خواہ پہلے سے پیش کی جا چکی ہو)۔

B۔ پراکسی کی تاحر دی کیلئے:

- (i)۔ فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا فرد کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہوں وہ مذکورہ بالا شرط کے مطابق پروف کی فارم جمع کر سکیں گے۔
- (ii)۔ پروف کی فارم پر دو اشخاص کی گواہی درکار ہوگی، جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج کرنے ہونگے۔
- (iii)۔ حق ملکیت رکھنے والا فرد اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل، پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنی ہوگی۔
- (iv)۔ پروف کی گواہی کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (v)۔ کارپوریٹ انٹائیٹی کی صورت میں، پورٹ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی دستخطی نمونہ کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ کئینی کو پیش کرنا ہوگی (خواہ پہلے سے پیش کیا جا چکا ہو)۔

S۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے مطلع کریں۔